



سوال

(46) نبی اکرم ﷺ کے بارے میں 'نور من نور اللہ' اور غیب دانی کا عقیدہ

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے کہ آپ بشر نہیں بلکہ "نور من نور اللہ" ہیں اور غیب جانتے ہیں۔ پھر وہ آپ سے فریاد کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ آپ نفع و نقصان کے مالک ہیں، تو اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس طرح کے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ راہنمائی فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ "نور من نور اللہ" ہیں اور آپ غیب جانتے ہیں، تو وہ اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ کفر کرنے والا گردانا جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دشمنوں میں سے ہے، اس کا شمار دوستوں میں سے نہیں، کیونکہ اس کا یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر مشتمل ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کفر ہے اس عقیدہ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر مشتمل ہونے کے دلائل یہ ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ... سورة الكهف ۱۱۰

"کہہ دو کہ میں تمہاری طرح تمہارے ہم مثل ایک بشر ہوں۔"

اور فرمایا:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ... سورة النمل ۶۰

"کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں، اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے۔"

اور فرمایا:

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا سَخِرَ لَكُمْ مِنَ الْأَلْحَامِ إِلَىٰ ۚ... سورة الأنعام ۵۰



کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ (یہ کہ) میں غیب جانتا ہوں اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے (اللہ کی طرف سے) آتا ہے۔“

اور فرمایا:

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلاَ ظَنُّواْ أَنَّمَا مَنَّا إِلاَّ أَنَّا كُنَّا نَسْتَحْشِرُ مِنْ غَيْبِ مَا سُمِّيَ النَّبِيُّ إِذَا أَنزَلْنَا بِهِ الْقُرْآنَ فَذَكَرْنَا الْعَرَبَ بِحَمْدِ اللَّهِ أَكْثَرَ مِنْ أَكْثَرِ أُمَّةٍ مُّمْنُونَ ۗ... سورة الأعراف ۱۸۸

کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو مومنوں کو ڈرانے اور خوش خبری سنانے والا ہوں۔“

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

«إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَنَسَى لَمَّا نَسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكَرْتُ» (صحیح البخاری، الصلاة، باب التوجه نحو القبلة... ح: ۳۰۱ و صحیح مسلم، المساجد، باب السهو فی الصلاة والسجود، ح: ۵۷۲)

”میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، میں بھی تمہاری طرح بھول جاتا ہوں، پس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔“

جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے استغاثہ کرے کہ آپ نفع و نقصان کے مالک ہیں، تو وہ بھی کافر و مشرک ہے اور اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرتا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۖ... سورة غافر ۶۰

”اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری (دعا) قبول کروں گا۔ بلاشبہ جو لوگ میری عبادت سے سرکش (تکبر) کرتے ہیں وہ عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔“

اور فرمایا:

قُلْ إِنِّي لَأَنبَأُكُمْ شَرَّ مَا تَدْرُسُونَ ۚ... سورة الأعراف ۲۱

”یہ بھی (کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، (یہ بھی) کہہ دو کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں پاتا۔“

ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں سے فرمایا:

«لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا» (صحیح البخاری، الوصایا، باب بل یدخل النساء والولد فی الاقارب، ح: ۲۷۵۳، و صحیح مسلم، الایمان، باب قوله تعالیٰ: وانذر عشیرتک الاقریبین ح: ۲۰۶)

”میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا۔“

آپ نے یہ بات اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ اور اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہما سے بھی فرمائی تھی۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے شخص کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، نہ نماز جائز ہے اور نہ مسلمانوں کے لیے اس طرح کے کسی شخص کو امام بنانا حلال ہے۔



هذا ما عندي والتألم بالصواب

فتاویٰ ارکان اسلام

عقائد کے مسائل : صفحہ 97

محدث فتویٰ